

نام کتاب ۔	:	ازدواج الانجیاء (ترجمہ نساء الانجیاء)
مؤلف	:	احمد خلیل جوہر
مترجم	:	خدیجہ فرمیں
س ن طباعت	:	۱۹۹۹ء
تعداد صفحات	:	۳۱۰
ناشر	:	دارالاشرافت، کراچی۔
تبہرہ نگار	:	ڈاکٹر سمیل حسن ☆

زیر نظر کتاب دراصل عربی تالیف (نساء الانجیاء) کا سلیمانی ترجمہ ہے، جسے خدیجہ فرمیں نے اردو کے قالب میں منتقل کیا ہے۔

اردو لٹریچر میں جہاں مردوں کے حوالے سے بے شمار کتابیں ملتی ہیں اسی طرح خواتین کے حوالے سے بھی اچھا خاصاً لٹریچر وجود میں آچکا ہے، ہمارے بزرگوں نے خواتین کے سائل و احکام کے حوالے سے بہت دیکھ کتابیں تحریر کی ہیں، ماضی قریب اور حال میں بھی خواتین کے لیے نہایت بہترین تالیفات اور تراجم کا ذخیرہ مارکیٹ میں آچکا ہے۔

انہی کتابوں میں اس کتاب کا شمار ہوگا، جس کے ذریعے سے آج کل کی خواتین کو انگیائے کرام کی ازدواج مطہرات سے تعارف کیا گیا ہے۔ فاضل مصنف نے حضرت آدم، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، حضرت ایوب، حضرت موسیٰ، حضرت زکریا اور حضرت ابراہیم علیہم السلام کی ازدواج مطہرات کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت نوح اور حضرت لوٹ کی غیر مسلم ازدواج کا بھی ذکر کیا ہے۔

ان خواتین کے ذکر میں جہاں ان کی سیرت شامل کی گئی ہے وہاں ان انبیاء کرام کی سیرت اور دعوت کا ذکر بھی آگیا ہے۔

فضل مصنف نے قرآن کریم کی آیات، احادیث نبویہ صحیح اور اسرائیلی روایات کی روشنی میں یہ کتاب مرتب کی ہے، جہاں تک قرآن کریم اور صحیح احادیث کا تعلق ہے تو ان کے قبول کرنے میں کسی مسلمان کو کوئی عار نہیں ہو سکتا، لیکن جہاں تک اسرائیلی روایات کا تعلق ہے وہاں سخت احتیاط کی ضرورت ہے، رسول اللہ ﷺ کے ارشاد کے مطابق نہ تو ان کی تقدیق کی جا سکتی ہے اور نہ ہی مکنذیب جبکہ کتب تقاضیر اور تواریخ میں ہر طرح کی روایات پائی جاتی ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان مورخ پر بہت بھاری ذمہ داری ٹانکد ہوتی ہے کہ وہ ان مقدس ہستیوں کے ذکر میں غایبت درجہ کی احتیاط اور دقیع نظر کو محفوظ رکھے۔

فضل مترجم صاحب نے ترجمہ میں روائی، سلاست اور اردو زبان کی تمام زیارات کا خیال رکھا ہے، قاری کو بہت کم یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک ترجمہ شدہ کتاب پڑھ رہا ہے، یہ مترجم کی مہارت اور دونوں زبانوں پر یکساں عبور کی دلیل ہے۔

کتاب میں جہاں انبیاء کرام کے ساتھ (علیہ السلام) کہا گیا ہے وہاں ان کی ازدواج کے لیے بھی (علیہما السلام) لکھا گیا ہے۔ جبکہ (علیہما السلام) کا لاحقہ صرف انبیاء کرام کے لیے مخصوص سمجھا جاتا ہے۔ لہذا ان خواتین کے ساتھ یہ لاحقہ درست معلوم نہیں ہوتا۔ کتاب میں افلاط نہ ہونے کے برابر ہیں، طباعت عمرہ اور تائیبل دیدہ زیر ہے۔

